

Elementary Script:

یہ اسکول میسنجر ایلیمنٹری اسکول ٹیلیفون پری رجسٹریشن کال کا (اُردو) ترجمہ ہے جو آپ کو انگریزی میں موصول ہوگی:

یہ آپ کے بچے کیلئے ٹورانٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کا ایک بہت اہم پیغام ہے جو اس ستمبر میں گریڈ (بچے سے مخصوص) میں جا رہا ہے۔ (آپ کو آپ کے بچے کیلئے ایک فون کال موصول ہوگی۔ کالوں کی نشاندہی اس گریڈ کے ذریعہ ہوگی جس میں وہ پڑھتے ہیں۔)

وزارتِ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ پورے دن کیلئے ایک سیکھنے کے گروپ (cohort) اور صحت و حفاظت کے بہتر اقدامات کے ساتھ ایلیمنٹری اسکول پانچ دن فی ہفتہ اسکول پر واپس آجائیں گے۔

ٹی ڈی ایس بی نے جسمانی ڈوری سے متعلق ٹورانٹو پبلک ہیلتھ کی سفارشات کی بنیاد پر، ایک حکمت عملی تیار کی ہے تاکہ سسٹم میں کلاس سائزوں کو بر ممکن حد تک کم کرنے کو یقینی بنایا جائے جبکہ کمیونٹی میں وسائل پر بھی توجہ دی جائے جہاں پبلک ہیلتھ کے اعداد و شمار کے مطابق کووڈ-19 لگنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ عملہ ٹورانٹو پبلک ہیلتھ کے ساتھ ان اسکولوں کا تعین کرنے کیلئے کام کر رہا ہے جنہیں اضافی وسائل کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

اگر آپ ستمبر میں اپنے بچے کو ذاتی تعلیم کیلئے اسکول نہ بھیجنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو ٹی ڈی ایس بی کے ورچوئل اسکول فار ریموٹ لرننگ (TDSB's Virtual School for Remote Learning) کے ذریعہ آپ کے بچے کیلئے ایک مکمل ڈوری سے سیکھنے کا ماڈل گھر پر دستیاب ہوگا۔ ریموٹ لرننگ ایک مرکزی ورچوئل اسکول ماڈل کے ذریعہ فراہم کی جائے گی کیوں کہ اسکول پر مبنی ایک انفرادی ماڈل کی فراہمی کے لئے کافی وسائل نہیں ہیں۔

آپ کے اسکول کو ستمبر کیلئے کلاس کی فہرستیں بنانے کی ضرورت ہے، لہذا ہم آپ سے ذاتی طور پر (اس کا مطلب ہے اسکول میں) یا ریموٹ لرننگ (اس کا مطلب ہے ورچوئل اسکول) کیلئے اپنے بچے کو اس وقت رجسٹر کروانے کیلئے کہہ رہے ہیں۔

1) ستمبر میں آپ کا بچہ اسکول کیسے واپس جائے گا:

"میرا بچہ ذاتی طور پر شرکت کرے گا" کیلئے 1 دبائیں

"میرا بچہ ورچوئل اسکول فار ریموٹ لرننگ میں حصہ لے گا" کیلئے 2 دبائیں

آپ کی رجسٹریشن کیلئے آپ کا شکریہ۔ اگلے اقدامات کے بارے میں آپ ڈیٹس اور معلومات حاصل کرنے کیلئے براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.tdsb.on.ca پر جائیں۔